

اپنے گھر میں محفوظ انداز میں علیحدہ رہنے کے لیے وسائل حاصل کرنے کا طریقہ



جس کسی کو بھی COVID-19 ہو یا جس کسی کا بھی COVID-19 میں مبتلا کسی شخص سے رابطہ رہا ہو، ایسے افراد کو گھر میں محفوظ انداز میں علیحدہ رہنے کے لیے وسائل مہیا کرنا NYC Test & Trace Corps یقینی بنائے گا۔ ایسا کرنے کے لیے، ہم آپ کے نواحی علاقوں میں بستوں کی بنیاد پر موجود تنظیموں کے وسائل کے تلاش دانوں (resource navigators) کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کے نواحی علاقوں میں آپ کو وسائل کے ساتھ رابطہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

وسائل میں شامل ہیں:

- + گھر پر ہی کھانے کی سپردگی
- + آپ کے آجر سے تنخواہ کی ادائیگی کے ساتھ چھٹی
- + دوائیں
- + صحت کا بیمہ
- + روزمرہ کی ضروریات (بجلی، پانی، گیس)
- + باقاعدہ قرنطینہ کے حکم کے لیے مدد
- + بنیادی دیکھ بھال کا ایک فراہم کنندہ
- + ذہنی صحت کی معاونت
- + گھریلو تشدد کے تدارک میں معاونت
- + سماجی خدمات
- + رہائش اور بے گھری سے متعلقہ وسائل
- + پالتو جانور کی دیکھ بھال
- + تین افراد پر مشتمل اہل خانہ کے لیے 10 دنوں تک قرنطینہ یعنی شدید علیحدگی/الگ تھلگ رہنے کے لیے کافی مقدار میں ذاتی حفاظتی ساز و سامان کا اپنا خیال رکھیے گا پلندا (Take Care Package)۔ اور مزید بہت کچھ!

COVID سے صحت یابی حاصل کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے وسائل سے رابطہ کرنے کی خاطر، وسائل کے کسی تلاش دان سے رابطے کے لیے **212-540-6923** پر کال کریں۔ اگر آپ ادارے کے کام کرنے کے وقت سے قبل یا اس کے بعد وائس میل، یعنی آپ کی آواز میں ریکارڈ کیا ہوا پیغام، بھیجیں گے، تو وسائل کا/کی ایک تلاش دان آپ کو اگلے کام کرنے کے دن میں کال کرے گا/گی۔

وسائل کے تلاش دان سے بات کرنے سے آپ کی مستقل رہائش (یا "گرین کارڈ") کے لیے درخواست کرنے کی اہلیت متاثر نہیں ہو گی۔ اس ملک میں اپنی موجودگی کی کیفیت (ایمیگریشن سٹیٹس) کے بارے میں اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پیر سے جمعہ تک، صبح 9.00 بجے سے شام 6.00 بجے تک، ActionNYC کی فوری ٹیلیفون لائن 1-800-354-0365 پر کال کریں اور "public charge" (پبلک چارج) کہیں۔

شریک تنظیم میں شامل ہیں: CUNY، BronxWorks اور Korean Community Services کے ساتھ شراکت میں Chinese-American Planning Council (CPC)۔

NYC Test & Trace Corps کو رابطے کا سراغ لگانے والوں کے ذریعے جو معلومات ملتیں ہیں، انہیں New York City Health Code (نیو یارک شہر کا ضابطہء صحت) کے تحت رازداری میں رکھا جاتا ہے اور تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ کارپس کے ڈیٹابیس (database) کو کسی بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ڈیٹابیس کے ساتھ منسلک نہیں کیا جائے گا۔ جو معلومات بھی ہمیں ملیں گیں ان کو NYC Test & Trace Corps محفوظ طریقے سے ذخیرہ کرے گا اور صرف مجاز عملہ ہی صحت عامہ کو تحفظ فراہم کرنے کے محدود مقاصد کے لیے انہیں استعمال کرے گا۔



NYC
HEALTH+
HOSPITALS

مزید معلومات کے لیے، testandtrace.nyc پر جائیں